



## Noble Quran الْقُرْآنُ الْحَكِيمُ

Urdu Translation (Shah Abdul Qadir) (حضرت شاہ عبدالقادر) اردو ترجمہ بمعہ عربی

### سورة الأحقاف بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمَّ

لَمْ

.1

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

اتارا کتاب کا ہے اللہ سے، جو زبردست ہے حکمت والا۔

.2

مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى<sup>ج</sup>

ہم نے جو بنائے آسمان وزمین، اور جو ان کے بیچ ہے، سو ایک کام (حق) پر،

اور ایک ٹھہرے وعدے پر (وقت مقرر کیلئے)۔

.3

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَاءُ<sup>ج</sup> أَنْذِرُوا أَمْعُرِضُونَ

اور جو منکر ہیں، (انہیں) ڈر سنایا (پر وہ) نہیں دھیان کرتے۔

.4

قُلْ أَعْمَاءُ<sup>ج</sup> تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

تو کہہ، بھلا دیکھو تو! جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا،

أَمْ رُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ<sup>ط</sup>

دکھاؤ تو مجھ کو انہوں نے کیا بنایا زمین میں یا انکو کچھ سا جھا (شرکت) ہے آسمانوں (کی تخلیق و تدبیر) میں؟

أَنْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ

لاؤ میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے کی، یا چلا آتا کوئی علم، اگر ہو تم سچے۔

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

اور اس سے (زیادہ) بہکا (گمراہ) کون جو پکارے اللہ کے سوا ایسے کو کہ نہ پہنچے اسکی پکار کو دن قیامت تک،

وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَفْلُونَ

اور ان کو خبر نہیں ان کے پکارنے کی۔

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ

اور جب لوگ جمع ہوں گے وہ (انکے معبود) ہوں گے انکے دشمن، اور ہوں گے ان کے پوجنے سے منکر۔

وَإِذْ أُنزِلَتْ عَلَيْهُمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ

اور جب سنائیے ان کو ہماری باتیں کھلی،

قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّيْنَا لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ

کہتے ہیں منکر سچی بات کو جب ان تک پہنچی، یہ جادو ہے صریح (کھلا)۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ<sup>ط</sup>

کیا کہتے ہیں یہ بنا لایا (یہ قرآن)؟

قُلْ إِنْ أَفْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا<sup>ط</sup>

تو کہہ، اگر میں یہ بنا لیا ہوں تو تم میرا بھلا نہیں کر سکتے، اللہ کے سامنے کچھ۔

هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ<sup>ط</sup>

اس کو خوب خبر ہے، جن باتوں میں لگے ہو۔

كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ<sup>ط</sup>

وہ بس (کافی) ہے حق بتانے والا میرے تمہارے بیچ۔

وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

اور وہی گناہ بخشتا مہربان۔

قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَا مَنِ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ<sup>ط</sup>

تو کہہ، میں کچھ نیا رسول نہیں آیا، اور مجھ کو معلوم نہیں، کیا ہونا ہے مجھ سے، اور نہ تم سے؟

إِنْ أَتَّبِعِ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

میں اسی پر چلتا ہوں، جو حکم آتا ہے مجھ کو، اور میرا کام یہی ڈر سنا دینا کھول کر (صاف صاف)۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ<sup>ط</sup>

تو کہہ، بھلا دیکھو تو! اگر یہ ہو اللہ کے ہاں سے اور تم نے اس کو نہیں مانا،

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ<sup>ط</sup> عَمَّا مَنَ وَأَسْتَكْبَرْتُمْ

اور گواہی دے چکا ایک گواہ بنی اسرائیل کا ایک ایسی کتاب کی، پھر وہ یقین لایا، اور تم نے غرور کیا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

بیشک اللہ راہ نہیں دیتا گناہگاروں کو۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ<sup>ج</sup>

اور کہنے لگے منکر ایمان والوں کو، اگر یہ کچھ بہتر ہوتا تو یہ نہ دوڑتے اس پر پہلے ہم سے۔

وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَمَسِيقُونَ هَذَا أَفَلَا تَكْفُرُونَ

اور جب راہ پر نہیں آئے اس کے بتانے سے، تو یہ اب کہیں گے یہ جھوٹ ہے مدت کا (پرانا)۔

وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً<sup>ج</sup>

اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ کی ہے، راہ ڈالتی اور مہر (رحمت)۔

وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانِ عَرَبِيًّا لِّئذْ يَرَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا أَوْ بُشِّرُوا لِلْمُحْسِنِينَ

اور ایک یہ کتاب ہے اسکو سچا کرتی، عربی زبان میں، کہ ڈر سنائے گناہگاروں کو اور خوشخبری نیکی والوں کو۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

مقرر (یقیناً) جنہوں نے کہا، رب ہمارا اللہ ہے، پھر ثابت رہے، تو نہ ڈر ہے ان پر، اور نہ وہ غم کھائیں گے۔

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا

وہ ہیں بہشت کے لوگ، سدا رہیں گے اس میں۔

جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

بدلہ اس کا جو (اعمال) کرتے تھے۔

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا<sup>ط</sup>

اور ہم نے تقید (تاکید) کیا ہے انسان کو اپنے ماں باپ سے بھلائی کا۔

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا<sup>ط</sup>

پیٹ میں رکھا اس کو اس کی ماں نے تکلیف سے، اور جنا اس کو تکلیف سے۔

وَحَمَلُهُ وَفَصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا<sup>ج</sup>

اور حمل میں رہنا اسکا، اور دودھ چھوڑنا تیس مہینے میں ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ

یہاں تک جب پہنچا اپنی قوت کو، اور پہنچا چالیس برس کو، کہنے (دعا کرنے) لگا

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ

اے رب میرے! میری قسمت میں کر کہ شکر کروں احسان تیرے کا جو مجھ پر کیا، اور میرے ماں باپ پر،

وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي دِينِي<sup>ط</sup>

اور یہ کہ کروں نیک کام، جس سے تو راضی ہو، نیک دے مجھ کو اولاد میری۔

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَىٰ رَبِّي وَرَبِّي وَابْتَلَيْتُ النَّاسَ فَأَجِدُهُمْ كَافِرِينَ

میں نے توبہ کی تیری طرف، اور میں ہوں حکم بردار۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّاتِ<sup>ط</sup>

(یہ) وہ لوگ ہیں جن سے ہم قبول کرتے ہیں بہتر سے بہتر کام جو کئے ہیں اور معاف کرتے ہیں ہم برائیاں انکی،

(شامل ہوں گے یہ) جنت کے لوگوں میں۔

وَعَدَ الصِّدِّيقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ

(یہ) سچا وعدہ (ہے)، جو ان کو ملنا تھا۔

.17

وَالَّذِي قَالَ لَوْلَا دِيهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعِدَا نِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَّتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي

اور جس شخص نے کہا اپنے ماں باپ کو، میں بیزار ہوں تم سے کیا مجھ کو وعدے دیتے (خوف دلاتے) ہو

کہ میں نکالا جاؤں گا قبر سے اور گزر چکی ہیں اتنی سنگتیں (نسلیں) مجھ سے پہلے۔

وَهُمَا يَسْتَعِينَانِ اللَّهَ وَيَلْتَكِئَانِ إِيَّاهُ إِنَّا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا

اور وہ دونوں (ماں باپ) فریاد کرتے ہیں اللہ سے کہ

اے خرابی تیری تو ایمان لا بیشک وعدہ اللہ کا ٹھیک (سچ) ہے

فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ

پھر (مگروہ) کہتا ہے یہ سب نقلیں (قصے) ہیں پہلوں کی۔

.18

أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

(یہ) وہ لوگ ہیں جن پر ثابت ہوئی بات (فیصلہ عذاب کا) شامل (ہو گئے)

اور (ان) فرقوں (امتوں) میں جو گزرے ہیں ان سے پہلے جنوں کے اور آدمیوں کے۔

إِنَّهُمْ كَانُوا أَحْسَرِينَ

بیشک وہ تھے ٹوٹے (خسارے) میں آئے۔

.19

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا

اور ہر فرقے کے (ایک کے لیے) کئی درجے ہیں، اپنے کئے کاموں (اعمال) سے

وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

اور تا (کہ) پورا دے ان کو (بدلہ) کام ان کے (کا)، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔

.20

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ

اور جس دن لائے جائیں گے منکر آگ کے سرے پر۔

(تو ان سے کہا جائے گا)

أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَأَسْتَمْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ

ضائع کئے تم نے اپنے مزے (اپنی نعمتیں)، اپنے دنیا کے جیتے، اور ان کو برت (لطف اٹھا) چکے،

اب سزا پاؤ گے ذلت کی مار،

بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ

بدلہ ان کا جو تم غرور کرتے تھے ملک میں ناحق، اور اس کا جو تم بے حکمی کرتے تھے۔

.21

وَأَذْكُرُ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَابِ

اور یاد کر عباد کے بھائی (ہود کو) جب ڈرایا اپنی قوم کو احتفاف میں،

وَقَدْ خَلَّتِ النَّدْمُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ

اور گزر چکے تھے چرانے (متنبہ کرنے) والے، آگے سے (پہلے بھی) اور پیچھے سے (بعد بھی)،

أَلَّا تَتَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

کہ بندگی نہ کرو کسی کی اللہ کے سوا۔ میں ڈرتا ہوں تم پر آفت (عذاب) سے، ایک بڑے (ہولناک) دن کی۔

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَأْفِكَنَا عَنِ الْهَيْئَةِ

بولے، کیا آیا ہے ہم پاس کہ پھیرے (بہکادو) ہم کو ہمارے ٹھا کروں (معبودوں) سے؟

فَأْتَيْنَاهُمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ

سولے آہم پر (وہ عذاب)، جو وعدے (ڈراوا) دیتا ہے، اگر ہے تو سچا۔

قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ

(انہوں نے) کہا، یہ خبر (اس کا علم) تو اللہ ہی کو ہے۔

وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أَمْرُسِلْتُ بِهِ

اور میں پہنچا دیتا (رہا) ہوں جو کچھ دیا میرے ساتھ،

وَلَكِنِّي أَمْرُسِلُكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ

لیکن میں دیکھتا ہوں، تم لوگ نادانی کرتے ہو۔

فَلَمَّا رَأَوْهُ كَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أُوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا

پھر جب دیکھا اُس (عذاب) کو ابر (کی صورت میں) سامنے آیا اُن کے نالوں (وادیوں) کے،

بولے یہ ابر ہے ہم پر برسے گا۔

بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ

کوئی (ہرگز) نہیں! یہ وہ ہے جس کی تم شتابی (جلدی) کرتے تھے۔

رِيْحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ

باؤ (ہوا کا طوفان) ہے جس میں دُکھ کی مار (عذاب) ہے۔



تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَكِنُهُمْ<sup>ج</sup>

اکھاڑ مارے ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے، پھر کل کورہ گئے، کوئی نظر نہیں آتا سوائے انکے گھروں کے۔

كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ

یوں ہم سزا دیتے ہیں گناہگار لوگوں کو۔

وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا آتَيْنَاهُم مَّا لَمْ يَكُن لَّهُمْ فِيهِ

اور ہم نے مقدور (اختیار) دیئے تھے ان کو، جو تم کو مقدور نہیں دیے،

وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَآبْصَارًا وَأَفْئِدَةً

اور ان کو دیئے تھے کان اور آنکھیں، اور دل۔

فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يُجَادُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ

پھر کام نہ آئے ان کو کان ان کے نہ آنکھیں ان کی نہ دل ان کے کسی چیز میں،

کہ تھے اس پر منکر ہوتے اللہ کی باتوں سے،

وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَمْتِرُونَ

اور اُلٹ پڑی ان پر جس بات سے ٹھٹھا (مذاق) کرتے تھے۔

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرَىٰ

اور ہم کھپا (ہلاک کر) چکے ہیں جتنی تمہارے آپ پاس ہیں بستیاں

وَصَدْرُ فَنَّا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

اور پھر سنائیں ان کو باتیں، شاید وہ پھر آئیں۔

فَلَوْلَا نَصْرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً

پھر کیوں نہ مدد (کو) پہنچے ان کی، جن کو پکڑا تھا اللہ سے ورے (قرب) درجہ پانے کو پوجنا؟

بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ

کوئی نہیں! گم ہوئے ان سے۔

وَذَلِكَ إِنْكُفُّهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْقَهُونَ

اور یہی جھوٹ تھا ان کا، اور جو باندھتے تھے۔

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ

اور جب متوجہ کر دیئے ہم نے تیری طرف کتنے لوگ جنوں میں سے، سننے لگے قرآن۔

فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنْصِتُوا

پھر جب پہنچے بولے، چپ رہو۔

فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّندِرِينَ

پھر جب تمام ہوا (قرآن کی تلاوت)، اُلٹ گئے اپنی قوم کو ڈر سناتے۔

قَالُوا أَيُّ قَوْمٍ مِّنَّا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

بولے اے قوم ہماری! ہم نے سنی ایک کتاب، جو اتری ہے موسیٰ کے بعد، سچا کرتی سب اگلیوں کو،

يَهْدِي إِلَىٰ الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ

بھاتی (بتاتی) سچا دین، اور ایک راہ سیدھی۔

يَقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ

اے قوم ہماری! مانو اللہ کے (کی طرف) بلانے والے کو، اور اس پر یقین لاؤ

يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

کہ بخشتے تم کو کچھ گناہ تمہارے، اور بچائے تم کو ایک دُکھ کی مار (عذاب) سے۔

وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنَ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ

اور جو کوئی نہ مانے گا اللہ کے بلانے والے کو، تو وہ نہ تھکا سکے گا بھاگ کر زمین میں،

اور کوئی نہیں اس کو اس کے سوا مددگار۔

أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

وہ لوگ بھٹکتے ہیں صریح۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَعْزُبْ عَنْهُم مِّنْ قَدْرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ

کیا نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ جس نے بنائے آسمان اور زمین، اور نہ تھکا ان کے بنانے میں

وہ (کر) سکتا (قادر) ہے کہ جلاوے (زندہ کرے) مُردے۔

بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

کیوں نہیں وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ

اور جس دن سامنے لائے منکروں کو آگ کے۔

أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ<sup>ط</sup>

(پوچھا جائے گا کیا) اب یہ ٹھیک (حق) نہیں؟

قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا<sup>ج</sup>

کہیں گے کیوں نہیں (حق ہے)! قسم ہے ہمارے رب کی۔

قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

کہا تو چکھو مار، بدلہ اس کا جو تم منکر ہوتے تھے۔

فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ<sup>ج</sup>

سو تو ٹھہرا (صبر کر)، جیسے ٹھہرے رہے ہمت والے رسول، اور شاہی (جلدی) نہ کر ان کے واسطے،

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّمَاهِ<sup>ج</sup>

یہ لوگ جس دن دیکھیں گے جس چیز کا ان سے وعدے ہے، جیسے ڈھیل نہ پائی تھی، مگر ایک گھڑی دن۔

بَلِّغْ<sup>ج</sup>

(یہ قرآن ہے بات کا) پہنچا دینا۔

فَهَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ

اب وہی کھیں (ہلاک ہوں) گے جو لوگ بے حکم ہیں۔

\*\*\*\*\*